

## مولانا اشرف علی تھانویؒ اور تصوف اور اخلاق حمیدہ

حکیم محمود احمد ظفر

سیالکوٹ

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ تصوف کیا بلا ہے؟ اور اس کی کیا حقیقت ہے میں نے فورا جواب دیا "صرف صحیح" فرمایا تصوف کی ابتداء "انما الاعمال بالیات" ہے ہوتی ہے اور انتہاء "ان تعبد الله كانك تراه" ہے۔ اسی کو نسبت کہتے ہیں اور اسی کو یادداشت کہتے ہیں اور اسی کو حضوری کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا حبیب الرحمن سے کہا کہ سارے پاپ اسی کے لیے پیلے جاتے ہیں ذکر بالجھر بھی اسی واسطے ہے، بجاہدہ اور مرماقبہ بھی اسی واسطے اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کسی طرح بھی یہ دولت عطا کر دے تو اس کو کہیں کی بھی ضرورت نہیں۔

صحابہ کرامؓ نبی اکرم ﷺ کی نظر کیمیا اثر سے ایک ہی نظر میں سب کچھ ہو جاتے تھے اور ان کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بعد اکابر اور حکماء امت نے تلسی امراض کی کثرت کے باعث مختلف علاج جیسا کہ اطباء بدین امراض کے لیے تجویز کرتے ہیں، روحانی اطباء نے روحانی امراض کے لیے ہر زمانہ کے مناسب اپنے تجربات جو اسلاف کے تجربات سے مستبط تھے، نئے تجویز فرمائے جو بعضوں کو تو بہت لفغ پہنچاتے ہیں اور بعضوں کو بہت دریگتی ہے۔

جب یہ پتہ چل گیا کہ اخلاق کی تمام تربیت دارادہ و نیت پر ہے، جو کہ قلب کا عمل ہے تو قلب کی اندر ورنی کیفیت اور حالت کی درستی کے لیے اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو ہمارے دل کے بر گوشہ کو ہر

طرف سے جھانک رہی ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں کوئی ایسی ذات ہے جس کی نگاہ ہمارے دل کی تھکوہزادوں پر دوں میں بھی دیکھ رہی ہے۔ دنیا کی تمام قومیں صرف ہمارے جسم پر حکمران ہیں، لیکن ایک قدرت والا ایسا بھی ہے جو دل پر حکمران ہے۔ پھر یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ اس ذات کے آگے ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوتا ہے۔ اور ایک روز ایسا بھی آئے گا جب ہمیں اپنے اعمال کی جزا یا سزا بھی ملتے گی۔ جب تک یہ دخیال ہمارے دل و دماغ میں جائز ہے ہوں ابھی اعمال کا اجھی نیت سے وجود قطعی ناممکن اور محال ہے۔

تیسرا شے جو اس سلسلہ میں ضروری ہے وہ ہے غرض و غایت اسلام میں نفس عمل مطلوب نہیں، بلکہ وہ عمل مطلوب ہے جس کی غرض و غایت صحیح ہو۔ عمل اگر قلب ہے تو غرض و غایت اس کی روح اور روح کے بغیر کوئی عمل نہیں رہ سکتا علمائے اخلاق کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ انسان کا کوئی فعل غرض و غایت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن وہ غرض و غایت ہے کیا؟ اس کا علمائے اخلاق کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ اخلاق کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے، البتہ اس کو اس سے بحث ہے کہ غرض و غایت کیا ہونی چاہیے؟ اسلام میں اس غرض و غایت اللہ کی رضا ہے اگرچہ اسلام میں جنت کو ایک مومن کے نیک کام کا لازمی نتیجہ ضرور بتایا گیا ہے لیکن اس کو نیک کام کی غرض و غایت قرار نہیں دیا گیا۔

طاعت میں تازہ نہ نہیں کی روک  
دوزخ میں لے کے ذال دے کوئی بہشت کو

انسان کو بدی کی ترغیب دینے، بلکہ ابھارنے والی دو قومیں ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، شیطان نے اگرچہ قسم کھا کر کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا لیکن شیطان پھر بھی نفس نفسانی سے چھوٹا دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کا اپنا نفس ہے ایک تو اس لیے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے عدو میں کہا ہے یعنی ظاہری دشمن، اور ظاہری دشمن سے آدمی آسمانی کے ساتھ بیچ سکتا ہے، لیکن جو دشمن چھپا ہوا ہو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ ظاہری دشمن سے بڑا دشمن ہوتا ہے، دوسری وجہ سے کہ خود شیطان کو بھی اس کے نفس نے ہی راندہ بارگاہ لئی بنایا تھا، اس وجہ سے نفس شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔

نفس ہے کیا؟ اس کو مولانا تھانوی نے یوں بیان فرمایا ہے۔

نفس انسان کے اندر ایک قوت ہے جس سے کسی شے کی خواہش کرتا ہے، خواہ وہ خواہش خیر ہو یا شر، اگر

اکثر شرکی خواہش کرے اور نادم بھی نہ ہو، اس وقت یہ امارہ کہلاتا ہے یعنی کثیر الامر بالسوء اور ہوتی اسی مرتبہ کی خواہش کا نام ہے اور کبھی اس میں خیر کی بھی خواہش کا پیدا ہو جانا اس مفہوم کے منافی نہیں کہوں کہ کثیر الامر کو دائم الامر ہوتا لازم نہیں۔ اور اگر یہ نفس نادم بھی ہونے لگے تو پھر ”لوامة“ کہلاتا ہے۔ اور اگر اکثر خواہش خیر کی کرے اس وقت ”مطمئنہ“ کہلاتا ہے یعنی ساکن الی الخیر کو کبھی اس میں شر کی بھی خواہش بلا عمل احیاناً پیدا ہو جائے کیوں کہ مغض انجداب بعین میلان منافی سکون کے نہیں۔ چنانچہ اجسام ثقلیہ باوجود میلان الی المركز کے ساکن بھی دیکھے جاتے ہیں، البتہ اس خواہش کے مقضیا پر عمل کرنا کہ حرکت من المفتر ہے یہ الیت منافی سکون ہے تو اس صورت میں نہ ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

ایک اور مقام پر مولانا تھانوی قدس سرہ نے نفس مطمئنہ کے بارے میں فرمایا:

اور نفس مطمئنہ کو جو مطمئنہ کہا جاتا ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ آتش محبت سے خالی ہے مگر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اندر اندر جلتے بھنتے رہتے ہیں گو ظاہر میں ہنستے پھرتے ہیں نوائے شیفتہ نے ان کی حالت کو خوب بیان کیا ہے:

تو اے افرادہ دل زاہد یکے در بزم زندان شو

کہ بنی خندہ بربل بہا و آتش پارہ در دل بہا

نفس کو مکارم اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت ہے اور یہ مجاہدہ چار باتوں

میں ہے:

(۱) قلت کلام      (۲) قلت طعام      (۳) قلت منام

ان میں غلو اور افراط نہ کیا جائے، بلکہ حقوق نفس کو جن سے قوام حیات اور بقاء زندگی، باقی رکھے اور حظوظ نفس کو جوان حقوق کے علاوہ ہیں اور جن پر دوام بدن اور بقاء زندگی موقوف نہیں، فنا کر دے، اس سے زائد غلو اور افراط ہے۔

ایسے اخلاق کی حقیقت بھی حکیم الامت نے بیان فرمادی اور مکارم اخلاق اور اخلاق مذمومہ دونوں کو عجیب طریقے سے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں: ”اخلاق سب فطری اور جلبی ہیں اور درجہ فطرت میں کوئی خلق نہ مذموم ہے اور نہ مُحْمُود بلکہ موقع استعمال میں ان میں مدح و ذم آجائی ہے، من اعطی لله ومنع لله فقد استكممل الايمان (یعنی جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے روکا تو اس کا ایمان مکمل ہوا) اس میں عطا اور منع دونوں کے ساتھ ”للہ“ کی قید ہے، جس نے مغلوم ہوا کہ حکاوت مطلقاً مُحْمُود نہیں اور نہ بخل مطلقاً مذموم بلکہ اگر خدا کے

لیے ہوں تو دونوں محدود و نہ دونوں مذموم۔ (۲)

مکار ام اخلاق دیسے تو بہت ہیں لیکن چند ایک حسب ذیل ہیں۔

### (۱) نیت و ارادہ:

حدیث میں ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، چنانچہ فرمایا۔ انما الاعمال بالنيات (۳) اعمال کا اعتبار نیت پر ہے، نیت کیا ہے امت کے حکیم نے اس کو یوں واضح فرمایا ”دل کا ایسی چیز کی طرف ابھرنا جس کو اپنی غرض و نفع کے موافق سمجھتا ہے، اس کو نیت کہتے ہیں اور اس کے معنی ارادہ اور قصد کے ہیں کہ جس سے کسی کام پر قدرت پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہر کام کے لیے پہلے علم کی ضرورت ہے اور علم کے بعد اس کو عمل میں لانے کا قصد وارادہ ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں ہلانے اور کام کے کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے گویا قدرت قصد وارادہ کی خادمہ ہے (۴)

ایک اور جگہ پر مولانا تھانوی نے نیت کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا:

”نیک عمل میں نیت تین طرح کی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ وہ فعل قصد ایا اختیار کیا جائے لیکن اس میں نہ غایت محسودہ کا تصور ہونہ غایت مذمومہ کا، دوسرے یہ کہ غایت محسودہ کا قصد ہو، مثلاً میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ غایت مذمومہ کا ارادہ ہو، مثلاً نمازیں اس لیے پڑھے کہ مخلوق کے نزدیک بڑا بنے، پس ان تینوں صورتوں سے ریاضت محسودہ کی صورت ہے اور صورت اولیٰ اور ثانیہ اخلاق میں داخل ہے۔ (۵)

ایک اور جگہ نیت کی بارہ میں مجدد تھانوی نے یوں فرمایا۔ نیت یہ ہو کہ اس میں راستہ نظر آجائے اور رہبر بننے کی نیت شرک فی الطریقت ہے بلکہ بزرگ بننے کی بھی نیت نہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہے تو وہ شخص غیر حق کا طالب ہے خود کچھ تجویز نہ کرے۔ (۶)

### (۲) اخلاق:

دین اور تصوف میں سب سے بڑی اور اہم چیز اخلاق ہے اور کوئی عبادت اور کوئی نیک کام اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس میں اخلاق کی روح نہ ہو۔ اسی کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ (۷)

حالانکہ ان لوگوں کو (کتب سابقہ) میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت

اس کے لیے اس کے لیے خاص رکھیں (ادیان باطلہ شرکیہ سے) ایک سوہہ کرتا۔

اس آیت میں "خلصین" کا لفظ ہے اس کا مصدر "اخلاص" ہے اس کا معنی ہے کہ انسان جو نیک کام کرے اس کا باعث اس فعل کی نیکی ہو اور جو فرض یا واجب ادا کرے اس کا باعث اس فعل کی فرضیت یا وجہ ہو، وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے اس فعل کو کرے، نہ وہ فعل کسی کو دکھانا مقصود ہو اور نہ ہی کسی کو سانان مقصود ہو، اصل مقصود بالذات اللہ کی رضا ہو، جنت کا حصول بھی بالتع مطلوب اور دوزخ سے نجات بھی بالتع مطلوب ہو۔

ایک اور مقام پر حکیم الامت تھانوی نے فرمایا:

"اپنی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا اور مخلوق کی خوشنودی اور رضا مندی یا اپنی

کسی نفسانی خواہش کا آمیزش نہ ہونے دینا اخلاص ہے (۸) حکیم الامت تھانوی نے ایک اور مقام پر فرمایا: علامہ شعرانی نے اخلاص کی ایک علامت لکھی ہے وہ یہ کہ جو کام تم کر رہے ہو اگر کوئی دوسرا اس کام کو کرنے والا تم سے اچھا اس بستی میں آجائے اور وہ کام ایسا ہو جو علی اعین واجب ہو جیسے مسجد، مدرسہ کا اہتمام، یا وعظ کہنا یا کسی نیک کام کے لیے چندہ کرنا وغیرہ تو تم کو اس کے آنے کی خوشی ہو، رنج نہ ہو بلکہ خود لوگوں کو اس کے پاس بھیجو کہ وہاں جاؤ۔ وہ مجھ سے بہتر ہیں اور سارا کام خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالہ کر کے خود ایک گوشہ میں بیٹھ جاؤ، اور دل میں خدا کا شکر کرو کہ تمہارا بوجہ باشنا کے لیے اس نے ایک آدمی کو بیٹھ دیا، اگر یہ حالت ہو تو پھر واقعی تم مخلص ہو۔ (۹)

### (۳) تبلیغ:

اسلام میں تبلیغ کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے قرآن حکیم میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایک ہوتی چاہیے جس کا وظیفہ زندگی ہی امر بالمعروف اور نبی عن المنکر ہو۔ بلکہ قرآن حکیم میں ایک جگہ اس کو "خیرامت" اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے ایک لفظ "دعوت" بھی آیا ہے دعوت کی دو فرمیں ہیں ایجادی دعوت اور سلبی دعوت یعنی ایک اسلام کی حفاظت اور دوسری اسلام کی مدافعت۔ اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں کے نقوش ہمارے نفوس میں احوال و کیفیات کی صورت میں جلوہ گر ہو جائیں۔ اس کے اقوال کی حفاظت ہماری زبان سے، اعمال کی حفاظت ہمارے اعضاء و جوارح سے اور عقائد و تصورات کی حفاظت ہمارے قلب و دماغ سے ہونے لگے۔ گویا اسلام ہمارے ساتھ ہو اگر کوئی اسلام کو دنیا میں دیکھنا چاہے تو ہمیں دیکھ لے صحابہ کرام نے اسی تحریقہ سے اسلام کی حفاظت کی۔ جہاں ایک

صحابی جاتا اس کو دیکھ کر سارا شہر گردید ہو جاتا۔ اس زمانہ میں ہم اس کی حفاظت کے لیے اس شان سے کھڑے ہیں کہ ہم ایک جانب ہیں اور اسلام ہمارے اندر نہیں بلکہ ہم سے ایک الگ ایک جانب۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیروں کو تو اسلام نظر نہیں آتا اور ہمیں اس کا طریقہ حفاظت اور ذریعہ تبلیغ ہاتھ نہیں لگتا۔ کافر تو اندھیرے میں تھا ہی مسلمان بھی اندھیرے میں چلا گیا۔

اس سلسلے میں مولانا تھانویؒ نے ایک مرتبہ فرمایا:

”علماء کی آج کل مدارس کی طرف بہت توجہ ہے اور ہونا چاہیے کیون کہ علوم اسلامیہ کے بقا کی صورت یہی ہے اور اس کے لیے وہ چندہ وغیرہ کرتے ہیں، اور چندہ دینے والے زیادہ تر عوام ہے تو علماء کو چاہیے کہ عوام کو اپنی طرف مائل کریں، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہر مدرسہ میں ایک داعظ تبلیغ کے لیے رکھا جائے جس کا کام صرف یہ ہو کہ احکام کی تبلیغ کرے اور اس کو ہدایا اور چندہ لینے سے بالکل منع کر دیا جائے، اگر کوئی خود بھی دے تو قبول نہ کرے، بلکہ مدرسہ کا پتہ بتا دے کہ اگر تم کو بھیجا ہو تو اس پتہ پر ترجیح دو۔

## (۲) تفکر:

قرآن حکیم میں تفکر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ”لعلهم یتفکرون“ تاکہ وہ کچھ فکر کریں ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ صاحب عقل و دانش کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزراں۔

ساعة ينادي فيها ربها ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها في صنع الله ،

و ساعة يخلو فيها ل حاجته من المطعم والمشرب۔ (۱۰)

ایک ایسی گھڑی جب کہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرے، اور ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اور ایسی گھڑی جب وہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق میں غور کر رہا ہو اور ایسی گھڑی جب تک وہ کھانے پینے کی ضروریات کے لیے وقت نکالے، ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا۔ فائزروما مابیقی علی ما یغنى۔ (۱۱) پس باقی رہئے والی چیزوں کو فانی چیزوں پر ترجیح دو۔

تفکر کیا ہے اس بارہ میں حکیم الامم تھانویؒ نے فرمایا: ”و معلوم چیزوں کا ذہن میں حاضر کرنا جس سے تیسری چیزوں میں آجائے اس کا نام تفکر ہے مثلاً ایک باعث یہ جانتا ہے کہ آخرت باقی ہے اور دوسری بات یہ جانتا ہے کہ باقی قابل ترجیح ہے ان دونوں سے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آخرت قابل ترجیح ہے (۱۲)

حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں آتا ہے ”کان دا سم الفکرہ متواصل الاحزان“ کہ آپ نبیش فکر و سوچ اور غم میں رہتے تھے۔ اس فکر و غم کا یہ اثر تھا کہ آپ بھی محل کرنے میتھے تھے، آپ کا بڑا بنتا یہ ہوتا تھا کہ آپ جسم فرمائیتے اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ ہماری خاطر جسم فرمائیتے تھے ورنہ جس کے سامنے وہ احوال شدید ہوں جو آپ پر منکشf تھے اس کو تو تمہری بھی نہیں ہو سکتا۔ (۱۲)

### (۵) تفویض:

اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ جو وہ چاہے اس میں تصرف کرے اور اپنی طرف سے کوئی طاقت یا نظام تجویز نہ کرنا تفویض کہلاتا ہے جو تمام حالات کو شامل ہے خواہ وہ حالات آفاتی ہوں یا انفیسی۔ تفویض میں معنی ترک مدیر نہیں بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اللہ کے سوا اہر کسی پر نظر نہ رکھے۔ مدیر کرے لیکن مدیر کے تمجہ والد کے سپرد کر دے اور جن امور میں مدیر کا کچھ تعلق نہیں ان میں تو ابتداء ہی سے تفویض و تسلیم اختیاز کرے۔ (۱۳)

ایک اور مقام پر حکیم الامت تھانوی نے فرمایا:

اپنی طرف سے کوئی خالت یا نظام تجویز نہ کرے۔ تجویز ہی تمام پریشانیوں کا سبب ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، پھر اس نظام کے خلاف واقع ہونے سے کلفت ہوتی ہے اور زیادہ حصہ اس نظام کا جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے غیر اختیاری ہوتا ہے تو غیر اختیاری امور کے لیے نظام تجویز کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے اہل اللہ نے تجویز منقطع کر کے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے۔

زندہ کنی لقائے تو در کبھی ندائے تو  
دل شدہ بتائے تو ہر چہ کنی رضاۓ تو (۱۴)

### (۶) تقوی:

تقوی کا امر اور فضیلت کا ذکر قرآن حکیم میں جس قدر ہے غالباً کسی اور چیز کا اتنا ذکر نہیں ہے، جس سے اس کا مضمون باشان ہونا معلوم ہوا۔ تقوی کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے۔ ایک ”ڈرنا“ اور دوسرا ”بچنا“ اور تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو معاصی سے بچنا ہے مگر سب اس کا ڈرنا ہے کیوں کہ جب کسی کا خوف دل میں ہوتا ہے جبھی اس سے بچا جاتا ہے۔

حکیم الامت مولانا تھانوی نے اپنے ایک وعظ میں تقوی کے بارے میں فرمایا۔

”خیال رہے کہ ہر شے اور اعضاء کا تقویٰ ہے۔ آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ بڑی نگاہ سے کسی عورت یا امرد کو نہ دیکھے، زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو ستائے نہیں۔ پاؤں کا تقویٰ یہ ہے کہ بڑی جگہ چل کر نہ جائے، کان کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ سنے، روگ باجے سے بچے، وضع میں بھی تقویٰ ہے کہ خلاف شریعت وضع نہ رکھے۔ پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ حرام مال نہ کھائے، وغیرہ حاصل یہ کہ صادق اور متینی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں۔

جو کام کریں اس میں یہ دیکھ لیں کہ ہم خلاف شریعت تو نہیں کرتے، خواہ کام دین کا ہو یا دنیا کا۔ (۱۶)

#### (۷) توضیح:

توضیح بھی اخلاق حمیدہ کا ایک جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”رحمن یعنی اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں“، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو اللہ کے لیے توضیح کرتا ہے اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے۔ حکیم الامم مولانا تھانویٰ توضیح کی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

”توضیح کی حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں اپنے کو لاٹی سمجھے، اور بیچ سمجھ کر توضیح کرے اپنے کو رفت کا اہل نہ سمجھے اور بیچ اپنے کو مٹانے کا قصد کرے۔ اس کی اصل مجاہدۃ نفس ہے کیوں کہ توضیح اس کا نام نہیں کہ زبان سے خاکسار، نیاز مند، ذرہ بے مقدار کہہ دیا بلکہ توضیح یہ ہے کہ اگر کوئی تم کو ذرہ بے مقدار سمجھ کر برا بھلا کئے اور ذلیل کرے تو تم کو انتقام کا جوش پیدا شہو اور تم اپنے نفس کو یوں سمجھالو کہ واقعی تو ایسا ہے پھر کیوں برآ مانتا ہے، اور کسی کی برائی سے کچھ رنج اثر نہ ہو تو یہ توضیح کا اعلیٰ درجہ ہے کہ مدح و ذم برابر ہو جائے مطلب یہ کہ عقلانہ برابر ہو جائے کیوں کہ طبعاً تو مساوات ہو نہیں سکتی کیوں کہ غیر اختیاری ہے۔ البتہ اختیاری امور میں توضیح اختیار کرے۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو توضیح اختیار کرے۔ کام اس کو رفت عطا فرمائیں گے۔ نیز اتفاق کی اصل توضیح ہے جن دشمنوں میں توضیح بوجی۔ ان میں نا اتفاقی نہیں ہو سکتی۔ توضیح میں جذب اور کشش کی خاصیت ہے متواضع کی طرف خود انجد اب ہوتا ہے بشرطیکہ صحیح توضیح ہو۔ (۱۷)

ایک اور مقام مولانا تھانویٰ نے فرمایا:

یہ سمجھ کر توضیح اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق یہی ہے کہ اس کے سامنے پستی اور توضیح کو اپنی

صفت بنائیں اور اپنے کو لاشے سمجھیں۔

لباس اور تواضع سے یا اہل دنیا کی طرف گفتگو سے طلب عزت کرنا انسان کا کام نہیں یہ تو نہایت بھلا پن  
ہے جس جماعت میں ثمار ہے اسی کی اصطلاح وضع اور طرز کو اختیار کریں، عزت اسی میں ہے۔ اگر مغلوق میں اس سے  
عزت نہ بھی ہوئی تو کیا پرواز ہے خالق کے نزدیک تو ضرور عزت ہوگی ظاہری اسباب عزت کی ضرورت نہیں۔ انسان تو  
وہ ہے جو کمالات میں بادشاہ ہو گو ظاہر میں فقیر ہو عارف فرماتے ہیں:

بینِ حقیرِ گولیاںِ عشق را کیںِ قوم  
شہاب بے کر و خروان بے کلمہِ اند  
اُگر کوئی لباس پر طعن کرے، کرنے دیں طرز میں عیب نکالے، نکالنے دیں کسی کی حقیری کی پرواہ کریں،  
تمہارے اللہ کی رضا کافی ہے ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ (۱۸)

#### (۸) توبہ:

خطاء (گناہ) کو یاد کر کے دل کا دکھ جانا اور اس گناہ کا ترکر دینا اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرنا کہ اب نہ  
کریں گے، اور ناجائز خواہش کے وقت نفس کو روکنا توہہ کھلاتا ہے۔ توبہ کے معنی اور حقیقت سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن  
میں رہنی چاہیے کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو اخروی زندگی کے لیے سم قاتل اور مہلک  
سمجھے اور ان کے چھوڑنے کا عزم کرے۔ (۱۹)

حکیم الامات مولانا تھانوی نے ایک اور جگہ توبہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا:  
حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئیں اور مجھ  
سے مغفرت چاہیں تو میں سب کو بخش دوں گا اور گناہوں کی کثرت کی پرواہ کروں گا۔

حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ شخص جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ (۲۰)  
عصمت انہیا، ایک مسلمہ امر ہے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز ستر دفعہ  
استغفار کرتا ہوں۔

اس کی پرواہ کریں کہ توبہ نوٹ جائے گی۔ جب توبہ نوٹ جائے تو فوز ادبارہ پھر توبہ کر لیں، مگر شرط یہ ہے

کہ تو یہ دل سے ہو، یعنی توبہ کے وقت یہ عزم پختہ ہو کہ اب یہ گناہ نہ کریں گے۔ اس طرح توبہ کر کے اگر سو مرتبہ بھی تو یہ نو لے پہنچ پر دو انہیں برد فعہ پھر تو ہے کہ بتے تریجیں خدا تعالیٰ کے مقبول بندوں اور اہل طاعت میں سے شمار ہوں گے۔ (۲۱)

مولانا تھانویٰ باضیٰ کے گناہوں کے بارہ میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اسکے ایک باراچھی طرح توبہ کر کے پھر گناہوں کے غم میں نہ رہنے، بلکہ کام میں لگادنے سے ورنہ گناہوں کا تصور اور غم بھی اس کے اور محظوظ حقیقی کے درمیان طبعی طور پر جایاب ہو جائے گا۔ جب بندہ خالص توبہ کرتا ہے (جو مقبول ہوتی ہے) تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ملائکہ افظیں اعمال کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے جوارح کو اور زمین کے نشانات کو بھی بھلا دیتا ہے (یعنی جس جگہ وہ گناہ کیا تھا جو قیامت میں گواہی دیتی) یہاں تک کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملتا ہے کہ اس پر گناہ کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ (۲۲)

### (۹) توکل:

صرف کارساز پر قلب پر اعتقاد کرنا توکل ہے۔ توکل کی دلیلیں ہیں۔ علماء اور عملاء علماء تو یہ کہ ہر امر میں متصرف حقیقی اور مدبر حقیقی اللہ جل شانہ کو سمجھے اور اپنے کو ہر امر میں اس کا محتاج اعتقاد کرے یہ توکل تو ہر امر میں عونا فرض اور جزو عقائد اسلامیہ ہے۔ دوسری قسم کا توکل عملاء اس کی حقیقت ترک اسباب ہے۔

اسباب مقدیہ یعنی جن پر وہ نفع عادنا ضرور مرتب ہو جاوے جیسا کہ کھانے کے بعد آسودگی ہو جانا، پانی پینے کے بعد پیاس کم ہو جانا، اس کا ترک کرنا جائز نہیں اور شرعاً یہ توکل ہے اور لغٹا توکل کہا جائے تو یہ توکل ناجائز ہے، اور اسباب ظدیہ جن پر غالب نفع مرتب ہو جائے مگر بار بار تخلف بھی ہو جانا ہو جیسے ملائج کے بعد سخت ہو جانا یا نوکری اور مزدوری کے بعد رزق ملنا ان اسباب کا ترک کرتا وہ ہے، جس کو عرف اہل طریقت میں اکثر توکل کہتے ہیں یہ ضعیف النفس کے لیے تو جائز نہیں اور قوی النفس کے لیے جائز ہے بالخصوص جو شخص قوی النفس بھی ہو اور خدمت دین میں مشغول ہو اس کے لیے منتخب بلکہ کسی قدر اس سے بھی منوکد ہے۔ (۲۳)

### (۱۰) خشوع:

خشوع کیا ہے؟ کسی نیک عمل میں ابتو معقول یہ کوئی نیغم اللہ کا خیال قلب میں حاضر نہ ہونا اور قلب کا انتقالات ابطور تکمیل بھی کسی جاہب نہ ہونا خشوع ہے، خشوع لغتاً مطلق سکون کو کہتے ہیں اور شرعاً سکون حوارج کو جس کی حقیقت ظاہر ہے اور سکون قلب جس کی حقیقت حرکت نکریہ کا انقطاع، اور جس طرح سکون حوارج کی تکلیف بقدر

ضرورت ہے، مثلاً قویٰ شخص اس پر قادر ہے کہ نماز میں کوئی حرکت نماز کے علاوہ صادر نہ ہونے دے، وہ اس کا مکلف ہوگا اور جو کسی درد میں بیٹلا ہے، غلبہ درد کے وقت اس پر قادر نہیں جب درد اٹھے گا، بے بھیں ہو کر بیج دتاب کھائے گا۔ اس لیے وہ اس درجہ سکون کا مکلف نہ ہوگا البتہ جب درد نہ ہو پھر وہ ایس فروں اس سکون کا مکلف ہوگا۔

اعمال میں خشوع کا طریقہ مولانا حکیم الامت تھانوی نے بتایا:

اس خشوع کا طریقہ یہ ہے کہ پختہ حافظوں کی طرح نماز نہ پڑھاگریں، بلکہ آئیے ناظر و خوان یا حافظ کی طرح جس کا قرآن کیا ہو، تو جس طرح ایسا ناظر و خوان یا حافظ ہر لفظ کو دیکھ کر یا سوچ کر ادا کرتا ہے اور لفظ پر دھیان کر کے پڑھتا ہے اسی طرح نماز میں ہر لفظ مستقل توجہ اور ارادہ کیا کریں۔ (۲۳)

تصوف اخلاق پر قابو پانے کا نام ہے، وساوس قلب کے اندر نہیں ہوتے بلکہ شیطان باب قلب سے اندر کی طرف وساوس پھونکتا ہے قلب کے اندر کی پیز کو صدمہ نہیں ہوتا۔ وساوس بھلی کی تاریں ہیں، اس کے ساتھ جیزیر پھاڑنہیں کرنا چاہیے۔ نہ نکلنے کی کوشش کرے اور نہ لانے کی شیطان سرکاری کتابے بھونکتا ہے تو بھونکنے دیں۔

آن خداوندائ کہ رو طے کردہ ان

گوش باب باغب سکان کے کردہ ان

ان اخلاق حمیدہ کے علاوہ اور بھی آئی اخلاق حمیدہ جن پر اہل تصوف کی خاص ریگاہ ہوتی ہے جیسے خوف، دغا، زجاجاء، اضیاء، زبد، شکر، صبر، صدق اور محیت وغیرہ اہل تصوف قلب کے تمام رذائل کو نکال کر فضائل اخلاق سے اسے مزین کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانہ میں حب جاہ اور حب دنیا کی وجہ سے بعض مشائخ اور اہل خانقاہ نے دوائے دل اور متاع درست قسم کرنے کی بجائے اپنی مشینیت کی دکانیں سجار کی ہیں، اب وباں اصلاح قلب، تربیت نفس اور اخلاق ولیبیت کی دولت ملنے کے بجائے نفس کو نمزا اور عقول کو بہانہ جو دنیا طلبی کا حلیہ اور سند ملتی ہے، ایسے موقعوں پر مصلحت امنیتوں کا خیال دامن گیر ہوتا ہے جو فی نفس اُرچہ عقول دانتائی کا ایک فرشتہ ہے لیکن کبھی کبھی شیطان ربجم بھی اس کے بھیں میں آ کر کام کرنے لگتا ہے۔

## حوالہ جات حواشی

(۱) التکفیف النور، ۶ جمادی الآخرہ ۱۳۲۲ھ۔

(۲) انفاس عیسیٰ، ص ۷۸۔

(۳) فتح الباری ۱/۵، ۱۴۰، ۱۴۵، ۹، مسلم رقم ۱۹۰۸۔

(۴) تبلیغ دین ص ۳۸۔

(۵) یووات عبدیت ۲/۱۲۲۔

(۶) کمالات اشرفیہ ص ۱۲۳۔

(۷) سورۃ الپیغمبر آیت ۵۔

(۸) اشرف المسائل ص ۹۱۔

(۹) تبلیغ بر جمع الآخرہ ۲۰۰/۲۳۸۔

(۱۰) ابن حبان: صحیح والحاکم فی المحدثین و قال صحیح الاسناد عن ابی داؤد

من دراجم، ۲/۲۳۵۔

(۱۱) تعلیم الدین ۲۸۔

(۱۲) انفاس عیسیٰ ص ۲۳۹۔

(۱۳) وعظ الجبر بالصریح ص ۲۶۔

(۱۴) شریعت و حقیقت ص ۱۳۵۔

(۱۵) تقویض:

(۱۶) وعظ الصوم ص ۱۹۔

(۱۷) انفاس عیسیٰ ص ۱۳۷۔

(۱۸) وعظ المرغبہ المرغوبہ ص ۲۷۔

(۱۹) تبلیغ دین ص ۱۸۵۔

(۲۰) انفاس العارفین ص ۱۹۲۔

(۲۱) وعظ الجمیعیت ص ۹۹۔

(۲۲) اشرف السوانح ۲/۲۰۰-۲۰۰۱۔

(۲۳) بوادر انوار ص ۲۸۷۔

(۲۴) الیاء الیتامی ص ۲۲۔